

# Can A Person Repeat a Wajib ul Iada Salah After Fajr or Asr?

Darulifta Ahlesunnat

(Dawateislami)

## Question

What do the noble scholars say about the following matter: It is common knowledge that praying Nafl prayers after Fajr and Asr is not allowed, but what about those prayers that have become Wajib upon us to repeat? Is it allowed to repeat them after these 2 prayers?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

It is permissible to offer a Wajib al-I'ada Salah (prayers that must be repeated) after Fajr and 'Asr if one has the surety or Zann-e-Ghalib (overwhelming assumption) that a Wajib was missed or that the prayer became Makruh Tahrimi. If he is not sure about either of these things, rather has a slight doubt and he wants to repeat his prayer just as a precaution, it is not allowed for him to repeat the prayer after Fajr or 'Asr.

The details are as follows: It is allowed to offer a missed Fard prayer after Fajr and Asr but offering a Nafl prayer is not allowed. As for Wajib prayers, there are two types:

1. Wajib Li 'Ainihi
2. Wajib Li Ghairihi

Wajib Li Gairihi has the same ruling as Nafl prayers. For example, if one starts a Nafl prayer but abandons it before finishing, he won't be allowed to make it up after Fajr or 'Asr. As for Wajib Li 'Ainihi prayers such as Witr, they are treated like Fard prayers and can be made up after Fajr and 'Asr.

Regarding the impermissibility of offering Nafl Salah after Fajr and 'Asr, it is narrated in *Sahih al-Bukhari* from Abu Saeed Khudri رضى الله عنه that he said, "I hear the Holy Prophet صلى الله تعالى عليه وسلم say:

لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس

**Translation:** There is no (nafl) prayer after Fajr until the sun rises, and there is no (nafl) prayer after 'Asr until the sun sets."  
(*Sahih al-Bukhari*, Hadith No. 586, Vol. 1, p. 121, Publ. Dar Tauq al-Najah)

It is stated in *Durr al-Mukhtar*:

(وكره نفل) قصداً (كل ما كان واجباً لغيره كمنذور ور كعتي طواف والذي شرع فيه ثم افسد بعد صلاة فجر وعصر، لا يكره) (قضاء فائتة و) لو وترأ أو (سجدة تلاوة وصلاة جنازة، وكذا) الحكم من كراهة نفل و واجب لغيره لا فرض و واجب لعينه (بعد طلوع فجر سوى سنته)

(*Durr al-Mukhtar Ma'a Radd al-Muhtar Multaqit*, Vol. 2, pp. 44-45, Publ. Dar Alam al-Kutub)

It is stated in *Hashiya Tahtawi 'Ala Maraqi al-Falah*:

ويكره التنفل بعد طلوع الفجر أي قصداً، ومثل النافلة في هذا الحكم الواجب لغيره كالمنذور ور كعتي الطواف وقضاء نفل أفسده، أما الواجب لعينه فلا كراهة فيه

(*Hashiya Tahtawi 'Ala Maraqi al-Falah*, p. 188, Publ. Beirut)

It is stated in *Tabiyin Al-Haqaiq*:

كل ما كان واجباً لغيره كالمنذور ور كعتي الطواف والذي شرع فيه، ثم أفسده ملحق النفل حتى لا يصلحها في هذين الوقتين

(*Tabiyin Al-Haqaiq*, Chapter of Salah, Vol. 1, p. 87, Publ. Cairo)

The Salah which became *Wajib-ul-I'ada* because of leaving a *Wajib* act or committing a *Makruh Tahrimi* act is categorized as '*Wajib Li-'Ainihi*'. That is why the jurists have permitted offering it after Fajr and 'Asr. However, as mentioned before, if one doesn't have the surety or *Zann-e-Ghalib* about leaving a *Wajib* or committing a *Makruh Tahrimi* act, rather he wants to repeat the Salah out of precaution, it will not be permissible to offer them after Fajr or 'Asr as it is a *Nafl* and *Nafl Salah* can't be offered at these times.

It is stated in *al-Bahr al-Raiq* and referring to it, it is stated in *al-Shami*:

فإن كان في وقت يكره التنفل بعد الفرض فمكروه كما بعد الصبح والعصر وإلا فإن كان لخلل في المؤدى فإن كان ذلك الخلل محققاً إما بترك واجب أو بارتكاب مكروه فغير مكروه بل واجب وصرح به في الذخيرة وقال إنه لا يتناول النهي وإن كان ذلك الخلل غير محقق بل نشأ عن وسوسة فهو مكروه  
(Al-Bahr al-Raiq, Vol. 2, p. 67, Publ. Dar al-Kitab al-Islami)

The following question was asked in *Fatawa Razawiyah*:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایونی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں، اور اگر اس نماز کے پھیرنے کا حکم ہو، تو فقط ظہر و عشاء کی پھیری جائے یا فجر و عصر و مغرب کی بھی، اور ایون کھانی کیسی ہے؟ ایونی فاسق مستحق عذاب ہے یا نہیں؟

Translation: What do the respected scholars of Islam say about this: Is it allowed to offer Salah behind an opium addict? If it is necessary to repeat the Salah offered behind him, should one only repeat the Zuhr and 'Isha prayers or Fajr, 'Asr, and Maghrib as well? Also, how is it to use opium? Is an opium addict a sinner and deserving of punishment or not?

Answering this, my master, A'la Hazrat Imam Ahmed Raza Khan stated:

”اور اگر ہوش میں ہو جب بھی اس کے پیچھے نماز ممنوع ہے: ”لان الصلوة خلف الفاسق تکرہ کراہة تحریم کما حقیقہ فی الغنیة وغیرہا“ کیونکہ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے جیسا کہ اس مسئلہ کی تحقیق غنیہ وغیرہ میں کی ہے۔ (ت) اگر پڑھ لی ہو، تو نماز پھیرنی ضروری ہے، اگرچہ فجر خواہ عصر خواہ مغرب کا وقت ہو ”فان کل صلاة ادیت مع کراہة تحریم تعاد وجوبا کما فی الدر وغیرہ بل و کذا علی قول من قال بالتنزیہ فان الاعادة اکمال لاتنفل کما لا یخفی واللہ سبحنہ، وتعالی اعلم“ کہ ہر وہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی گئی ہو اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے، جیسا کہ در مختار وغیرہ میں ہے، بلکہ اس کے قول پر بھی یہی حکم ہے، جو اسے مکروہ تنزیہی قرار دیتا ہے، کیونکہ اعادہ اکمال ہے، زائد اور بے فائدہ نہیں، جیسا کہ واضح ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم (ت)۔“

Translation: If he (an opium addict) is sober at that time, even then it is prohibited to offer Salah behind him, “For indeed the Salah

offered behind a Fasiq is Makruh Tahrimi, as was verified in al-Ghunyah and other books.” If one offered a Salah behind such, he must repeat it regardless of it being the time of Fajr, ‘Asr, or Maghrib, “because it is wajib to repeat every Salah offered as Makruh Tahrimi as mentioned in Durr al-Mukhtar and other books. Rather, the ruling is the same for those who consider it Makruh Tanzihi because repeating is done for perfection of the Salah and that cannot be considered extra as is obvious.” Allah, the pure and exalted knows best.

(Fatawa Razawiyyah, Vol. 6, pp 463-464, Publ. Raza Foundation, Lahore)

The Salah offered out of precaution is considered Nafl and this has been stated in *Munyah al-Musalli*, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, and *Hashiya al-Shalbi*. The following words are from *al-Munyah*:

ومن اراد ان يقضى صلوات كلها صلاها ان كان لاجل نقصان دخلها او كراهة فحسن والافقيل لا يكره لانه  
اخذ بالاحتياط الا بعد الفجر والعصر لانه نفل ظاهر او هو مكروه بعدهما

(Ghunyah al-Mutamalli, p. 535, Publ. Quetta)

(Al-Fatawa Al-Hindiyyah, Vol. 1, p, 124, Publ. Dar al-Fikr)

(Hashiya al-Shalbi ‘Ala Tabyin al-Haqaiq, Vol. 1, p. 188, Publ. Cairo)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

(Allah Almighty knows best and His Messenger صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ knows best.)

**Answered By:** Mufti Muhammad Qasim Attari

**Ref No:** Hab-0175

**Date:** 13<sup>th</sup> Safar al-Muzaffar, 1445 AH/19<sup>th</sup> August 2023



**Dar-ul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)**



[www.daruliftaahlesunnat.net](http://www.daruliftaahlesunnat.net)



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



[feedback@daruliftaahlesunnat.net](mailto:feedback@daruliftaahlesunnat.net)